

Telephonic Conversation between PM and Crown Prince of Abu Dhabi

March 26, 2020

وزیر اعظم اور ابوظہبی کے ولی عہد کے مابین ٹیلیفونک گفتگو

26 مارچ، 2020

وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ عالی جناب شیخ محمد بن زاید النہیان کے ساتھ ٹیلیفون پر بات کی۔

دونوں رہنماؤں نے جاری کووڈ 19 وبائی مرض اور اپنے اپنے ممالک کی صورتحال اور ساتھ ہی ان کی حکومتوں کے ذریعہ اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں معلومات اور خیالات کا تبادلہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اگلے چند ہفتے وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لئے اہم ثابت ہوں گے، اس کے لئے تمام ممالک کی طرف سے مشترکہ اور مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ اس تناظر میں، انہوں نے وبائی مرض پر تبادلہ خیال کرنے کے لئے دن کے اوائل میں جی 20 قائدین کے درمیان ورچوئل سمٹ کے تنظیم کی تعریف کی۔

دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات کی مضبوطی اور فراوانی کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے موجودہ صورتحال میں اپنے افسران کے مابین مستقل مشاورت برقرار رکھنے پر اتفاق کیا، خاص طور پر لوجسٹیکل سپلائی چین کے تسلسل کو یقینی بنانے کے حوالے سے۔

عالی جناب ولی عہد شہزادہ نے وزیر اعظم کو متحدہ عرب امارات میں مقیم 20 لاکھ سے زائد ہندوستانیوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں یقین دہانی کرائی جو متحدہ عرب امارات کی معیشت میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے موجودہ صورتحال میں ہندوستانی تارکین وطن کی صحت اور حفاظت پر اپنی ذاتی توجہ کے لئے ولی عہد شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔

وزیر اعظم نے ولی عہد شہزادہ اور پورے شاہی خاندان کے ساتھ ساتھ تمام اماراتی شہریوں کی اچھی صحت کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ولی عہد شہزادے نے اپنی طرف سے تمام ہندوستانیوں کے لئے پرتباک انداز میں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

نئی دہلی

26 مارچ، 2020

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.